



## سوال

(74) رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جائے گی یا نہیں؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

منڈی احمد آباد سے محمد رفیق ساجد لکھتے ہیں کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جائے گی یا نہیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے متعلق باز پرس ہوگی، اس ذمہ داری سے عمدہ برآ ہونے کے لئے کچھ لوازمات و ارکان اور شرائط ہیں، ان میں سے قیام اور قراءت سورۃ فاتحہ سرفہرست ہیں، ان کی ادائیگی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں بحالت رکوع شامل ہونے والا ان دونوں سے محروم رہتا ہے۔ لہذا اس حالت میں امام کے ساتھ شامل ہونے والے کو رکعت دوبارہ ادا کرنا ہوگی، چنانچہ حدیث میں ہے: "کہ جس قدر نماز امام کے ساتھ پاؤ، وہ پڑھ لو اور جو (نماز کا حصہ) رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔" (صحیح بخاری)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیف جزء القراءت میں اس موضوع پر تفصیل سے لکھا ہے، رکعت شمار کرنے کے متعلق جو صریح روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور جو صحیح ہیں وہ صریح نہیں ہیں۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

## فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد: 1 صفحہ: 114